

Ur

بخط ابو الحسن  
نگارش آسان

# دعا مجید



# دعاء مجیر

Dua Mujeer

دعاۓ مجیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خداوند بخشنده مهربان  
خدا کے نام سے شروع جو بڑا مهربان نہایت رحم والا ہے



سُبْحَانَهُ يَا أَللّٰهُ تَعَالَى يَا

پاک و منزہی ای خدا \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے اللہ تو بلندتر ہے اے

رَحْمٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای بخساینده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
رحم کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا رَحْمَمْ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای مہربان \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے مہربان تو بلندتر ہے اے

# كَرِيمٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجْيِرٍ

ای کریم \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش \*  
کریم ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا مَلِكُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای پادشاہ وجود \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے بادشاہ تو بلندتر ہے اے

# مَالِكُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای مالک عالم \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناه بخش \*  
آقا ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا قُدُّوسُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای ذات کامل مبرّا از نقص \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے پاک ترین تو بلندتر ہے

# سَلَامُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای سلامت بخش \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش \*  
اے سلامتی دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا مَوْمِنْ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای ایمن کن ترسناکان \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے امن دینے والے تو بلندتر ہے

# مَهِيمِنْ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرْ

ای شاهد عالمیان \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش \*  
اے نگہبان ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا عَزِيزٌ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّهی ای باعزت و اقتدار \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے صاحب عزت تو بلندتر ہے

# جَبَارٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای با جبروت و جلال \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
اے زبردست ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا مُتَكَبِّرُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای باکبریا \* بلند مرتبه ای ای  
تو پاک ہے اے بڑائی والے تو بلندتر ہے اے

# مُتَجَبِّرُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

\* صاحب بزرگی و جلالت \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
بڑائی کے مالک ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے

# سُبْحَانَكَ يَا خَالِقُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای آفریننده عالم \* بلند مرتبه‌ای  
تو پاک ہے اے پیدا کرنیوالے تو بلندتر ہے اے

# بَارِئُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای پدیدآورنده خلق \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
بنانے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# وَسُبْحَانَكَ يَا مُصَوْرٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای صورت آفرین \* بلند مرتبه‌ای  
تو پاک ہے اے صورت گر تو بلند ہے اے

# مُقْدِرٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای تقدیر کننده امور \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
اندازه ٹھرانے والے ہمیں آگ سے پناه دیاے پناه دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا هَادِيٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای رہنمای خلق \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے ہدایت دینے والے تو بلندتر ہے اے

# باقی أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای باقی ابدی \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
باقی رہنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا وَهَابُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای بخشندہ بی عوض \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے بہت دینے والے تو بلندتر ہے اے

# تَوَابُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

\* ای توبہ پذیر ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
توبہ قبول کرنیوالے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# وَسُبْحَانَكَ يَا فَتَاحُ الْعَالَمَاتِ يَا

پاک و منزّهی ای گشاپنده درهای رحمت \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے کھولنے والے تو بلندتر ہے اے

# وَرَبُّ الْأَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای وسعت بخش \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
صاحب راحت پناه دے ہمیں آگ سے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدِي ﷺ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای سید من \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے میرے سردار تو بلندتر ہے اے

# مَوْلَائِيَ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای مولای من \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
میرے مولا ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا قَرِيبُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای نزدیک به خلق \* بلند مرتبه‌ای  
تو پاک ہے اے نزدیک تر تو بلندتر ہے اے

# رَقِيبٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای نگهبان عالم \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه‌بخش \*  
نگهدار ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# و سُبْحَانَكَ يَا مُبِدِّئُ تَعْالَيَّتْ يَا

پاک و منزّهی ای پدیدآورنده \* بلند مرتبه‌ای  
تو پاک ہے اے ابتداء کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# و مَعِيدُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای بازگرداننده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
لوٹا نے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



سُبْحَانَكَ يَا حَمِيدُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای ستوده صفات \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے حمد کے لائق تو بلندتر ہے اے

مَجِيدُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای صاحب مجد \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
شان والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا قَدِيمٌ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای ذات قدیم \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے سب سے پہلے تو بلند تریے اے

# عَظِيمٌ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

\* ای حقیقت بزرگ \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
بزرگتر ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا غَفُورُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای آمرزنده گناھان \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے بہت بخشنے والے تو بلندتر ہے اے

# شَكُورٌ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای نعمت بخش شاکران \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
لائق شکر ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# وَسُبْحَانَكَ يَا شَاهِدٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای گواہ خلق \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے گواہی دینے والے تو بلندتر ہے اے

# شَهِيدٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای مشاهدہ کننده عالم \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
حاضر و موجود ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا حَنَانُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای مہربان \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے محبت والے تو بلندتر ہے اے

# مَنَانُ أَجِرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

\* ای نعمت بخش \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
احسان کرنیوالے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا بَاعِثُ<sup>۹</sup> تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای برانگیزاننده خلقان \* بلند مرتبه‌ای  
تو پاک ہے اے اٹھانے والے تو بلندتر ہے اے

# وَارِثُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای ارث بر عالمیان \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
سچے وارث ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا مُحَمَّدُ تَعَالَى يَا سُبْحَانَكَ يَا مُحَمَّدُ

پاک و منزّھی ای زندہ‌کننده مردگان \* بلند مرتبه‌ای  
تو پاک ہے اے زندہ کرنے والیتو بلندتر ہے اے

# مَمِيتُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای میراننده زندگان \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
موت دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# وَسْبُحَانَكَ يَا شَفِيقُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای مهربان باشفقت \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے مهربانی کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# رَفِيقُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای رفیق باعنایت \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
ساتھ دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا أَنِيسُ • تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای انیس خلق \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے رفیق تو بلندتر ہے اے

# مُونِسُ • أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای مونس بندگان \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش \*  
ہمدم و یاور ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# و سُبْحَانَهُ يَا حَمِيلٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای با جلالت و بزرگی \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے جلالت والے تو بلندتر ہے اے

# جَمِيلٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای با حسن و جمال \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش \*  
صاحب حسن ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سَبْحَانَكَ يَا حَمْدُكَ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّهی ای آگاه از امور خلق \* بلند مرتبه‌ای ای بینای  
تو پاک ہے اے خبر رکھنے والے تو بلندتر ہے اے

# بَصِيرٌ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

\* به احوال بندگان ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
دیکھنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا حَفِيْظَهُ تَعَالَى يَا

پاک و منزّھی ای حقیقت پنہانی \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے صاحب عقلتو بلندتر ہے اے

# مَلِئْ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجْرِيْ

ای غنی الذات \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
مراد برلانے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# و سُبْحَانَكَ يَا مَعْبُودٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای معبد حقیقی \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے معبد تو بلندتر ہے اے

# مَوْجُودٌ أَجِرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای موجود بالذات \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
موجود حقیقی ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# و سُبْحَانَكَ يَا غَفَارٌ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّهی ای بخشنده گناه \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے بخشنے والے تو بلندتر ہے اے

# قَهْرٌ وَ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٍ

ای باقهر و سطوت \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
زبردست ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا مَدْكُورٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای یادآورنده \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے یاد کئے ہوئے تو بلندتر ہے اے

# مَشْكُورٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای پاداش بخشنده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
شکر کیے گئے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# وَسْبِحْكَيْ يَا جَوَادُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای بخشندہ بی عوض \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے بہت زیادہ سخی تو بلندتر ہے اے

# مَعَذُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای پناہ بی پناہان \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
جائے پناہ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# و سُبْحَانَهُ يَا حَمَّالُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای نیکو \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے حسن والے تو بلندتر ہے اے

# جَلَلُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای بزرگ \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
بزرگی والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# وَسُبْحَانَكَ يَا سَابِقُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای پیش از همه \* بلند مرتبه‌ای  
تو پاک ہے اے سب سے اول تو بلندتر ہے اے

# رَازِقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای روزی دهنده خلق \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
رزق دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا صَادِقُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای صادق الوعد \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے صاحب صدق تو بلندتر ہے اے

# فَالْقُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٍ

ای شکافنده روشنی \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
شگافته کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# وَسُبْحَانَكَ يَا سَمِيعُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای شنوای دعای خلق \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے سنے والے تو بلندتر ہے اے

# سَرِيعٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای زود اجابت کننده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
تیزتر ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا رَفِيعٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای رفیع منزلت \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے بلندی والے تو بلندتر ہے اے

# بَدِيعٌ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای نو بہ نو پدید آورنده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
جدت والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا فَعَالُ • تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای عملکننده نظام عالم \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے بڑے فاعل تو بلندتر ہے اے

# مُتَعَالُ • أَجِرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای بزرگوار \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
عالی تر ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا قَاضِيٌّ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّهی ای داور خلق \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے فیصلہ کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# رَاضِيٌّ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

\* ای خوشنود \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
راضی ہو جانے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا قَاهِرٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای غالب قاهر \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے زبردست تو بلندتر ہے اے

# طَاهِرٌ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای پاک و منزّه \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
پاکیزگی والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا عَالَمُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای دانای به خلق \* بلند مرتبه‌ای  
تو پاک ہے اے صاحب علم تو بلندتر ہے اے

# حَاكِمُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای حکم‌فرمای بھے حق \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
صاحب حکم ہمیں آگ سے پناہ دے اے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا دَائِمٌ • تَعَالَى وَتَّابِعٌ

پاک و منزّھی ای هستی همیشگی \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے ہمیشه رہنے والے تو بلندتر ہے اے

# قَائِمٌ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مَجِيرٌ

ای قائم بالذات \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
موجود ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# وَسُبْحَانَهُ يَا عَاصِمٌ وَتَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای حفظ کننده \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے حفاظت کرنیوالے تو بلندتر ہے اے

# قَاسِمٌ وَأَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای قسمت کننده \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
 تقسیم کرنیوالے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا غَنِيٌّ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّهی ای ذات بی نیاز \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے تونگر تو بلندتر ہے اے

# مُغْنِيٌّ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجْيِرٌ

ای بی نیاز کننده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
تونگر کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



سُبْحَانَهُ يَا وَفِي تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای وفا کننده به عهد \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے وفا والے تو بلندتر ہے اے

قَوْيٌ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٍ

ای توانای مطلق \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
قوت والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا كَافِيْ تَعَالَىْتَ يَا

پاک و منزّهی ای کفايت کننده امور \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے، اے کفايت کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# شَافِيْ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجْيِرُ

ای شفا بخش بیماران \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
شفا دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا مَقْدِمٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای مقدم دارنده \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے سب سے پہلے تو بلندتر ہے اے

# مُؤْخِرٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای مؤخر کننده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
سب سے آخر رہنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا أَوَّلُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای اول موجود \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے سب سے اول تو بلندتر ہے اے

# ءَاخِرُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای آخر ہستی \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
سب سے آخر موجود ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا ظَاهِرٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای ذات پیدا \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے آشکار تو بلندتر ہے اے

# بِاطِنٌ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای حقیقت پنهان \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
پوشیده ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا رَجَاءُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای امید امیدواران \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے امیدگاہ تو بلندتر ہے اے

# مُرْتَجِيٌّ أَجِرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای مرجع آرزوها \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
امید کیے ہوئے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا ذَٰلِمَنْ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای خداوند نعمت \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے صاحب احسان تو بلندتر ہے اے

# ذَٰلِطَوْلِ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای خداوند احسان \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
صاحب بخشش ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا حَمْدُهُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای زندہ ابدی \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے زندہ تو بلندتر ہے اے

# قَيْوُمُ الْأَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مَجِيرُ

ای نگهدار عالم \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
نگہبان ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا وَاحِدُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای خدای یگانه \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے یگانه تو بلندتر ہے اے

# أَحَدٌ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجْيِرٍ

ای خدای یکتا \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش \*  
یکتا ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدُ الْعَالَمَاتِ يَا

پاک و منزّهی ای سید خلق \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے آقا تو بلندتر ہے اے

# صَمَدُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای غنی مطلق \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
بے نیاز ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا قَدِيرُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّهی ای توانا \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے صاحب قدرت تو بلندتر ہے اے

# كَبِيرُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای بزرگ \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
صاحب کبر ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا وَالِّيٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای سلطان عالم \* بلند مرتبه‌ای  
تو پاک ہے اے حاکم تو بلندتر ہے اے

# مُتَعَالِي (عالی) أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای برتر از همه عالم \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
ذات عالی ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا عَلِيٌّ تَعَالَى يَا

پاک و منزّهی ای با علوّ باشأن \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے بلند تو بلندتر ہے اے

# أَعْلَى أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای بالاتر \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
سب سے بلند ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا وَلِيٌّ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزہی ای صاحب اختیار عالم \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے سرپرست تو بلندتر ہے اے

# مَوْلَیٰ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجْرِيٰ

ای سلطان عالم \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
مالک ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا ذَارِيٌّ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای آفریننده \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے ہوا چلانے والے تو بلندتر ہے اے

# بَارِيٌّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٍ

ای پدیدآورنده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
پیدا کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا خَافِضٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای ذلیل و پستکننده \* بلند مرتبه‌ای  
تو پاک ہے اے پست کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# رَافِعٌ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای رفت بخشنده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
بلند کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا مُقْسِطٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای عدل و داد کننده \* بلند مرتبه‌ای ای  
تو پاک ہے اے پرآگنده کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# جَامِعٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

\* جمع آورنده متفرق‌ها \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه‌بخش  
اکٹھا کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے

# سُبْحَانَهُ يَا مُعِزُّ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای عزیزکننده \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے عزت دینے والے تو بلندتر ہے اے

# مُذْلٌ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مَجِيرُ

\* ای خوارکننده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
ذلت دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا حَافِظُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای نگهبان \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے حفاظت کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# حَفِظْ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرْ

ای نگهدار \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
نگهبان ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# و سُبْحَانَكَ يَا قَادِرُ تَعَالَى وَتَبَّا

پاک و منزّهی ای ذات قادر \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے قدرت والے تو بلندتر ہے اے

# و مُقْتَدِرُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

\* ای سلطان مقتدر \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
اقتدار والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا عَلِيُّمْ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای دانا \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے علم والے تو بلندتر ہے اے

# خَلِیْمُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِیْرُ

ای بردبار \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
حلم والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا حَكَمٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای داور \* بلند مرتبه‌ای  
تو پاک ہے اے فیصلہ کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# حَكِيمٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای با حکمت و عنایت \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
حکمت والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا مُعْطِيٌ تَعْالَيَّتْ يَا

پاک و منزّھی ای عطا بخش \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے عطا کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# مَانِعُ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مَجِيرُ

ای مانع عطا \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش \*  
روک لینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا ضَارُّ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّهی ای ضرر رساننده \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے نقصان دینے والے تو بلندتر ہے اے

# نَافِعٌ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٍ

ای سود بخشنده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
نفع دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا مُجِيبُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای اجابت کننده دعای خلق \* بلند مرتبہ ای ای  
تو پاک ہے اے دعا قبول کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# حَسِيبُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

به حساب آورنده بندگان \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
حساب کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے

# سُبْحَانَهُ يَا عَادِلٌ تَعَالَيْتَ يَا



پاک و منزّھی ای خدای عادل \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے عدل کرنے والے تو بلند تر ہے اے

# فَاصِلُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٍ



ای جدا کننده \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
جدا کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا لَطِيفُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای بالطف و کرم \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے لطف کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# شَرِيفُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای با عزت و شرف \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
عزت والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا رَبُّهُ تَعَالَى يَا



پاک و منزّھی ای پروردگار \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے پالنے والے تو بلندتر ہے اے

# حَقٌّ أَجِرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٍ

ای ثابت ابدی \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
برحق ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا مَاجِدٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای با مجد و بزرگی \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے بزرگی والے تو بلندتر ہے اے

# وَاحِدُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای ذات بگانه \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
یکتا ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# وَسُبْحَانَكَ يَا عَفْوٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای عفو کننده \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے معاف کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# وَمُنتَقِمٌ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای انتقام کشنده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
بدلہ لینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا وَاسِعُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای وسیع رحمت \* بلند مرتبہ ای گشاپش  
تو پاک ہے اے کشادگی والے تو بلندتر ہے اے

# مُوسَعُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

\* و وسعت بخش ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
کشادگی دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا رَءُوفُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّهی ای مهربان \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے مهربانی کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# عَطُوفٌ أَجِرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای با عطوفت \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
نرمی کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا فَرِدُ تَعَالَى يَا

پاک و منزّھی ای یکتا \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے بے مثل تو بلندتر ہے اے

# وَتُرْ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجْيِرُ

ای خدای بی‌همتا \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
تنہا ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# و سُبْحَانَكَ يَا مُقِيتُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای نگهدارنده حد هر کس \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے نگاہ رکھنے والے تو بلندتر ہے اے

# و مُحِيطُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای احاطه کننده \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
احاطه کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا وَكِيلُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای وکیل امور بندگان \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے کارساز تو بلندتر ہے اے

# عَدْلٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجْرِيٰ

ای ھمه عدل و داد \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
انصاف کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا مُبِينٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای آشکارکننده \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے روشن تر تو بلندتر ہے اے

# مَتَّيْنُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجْيِرٍ

ای استحکام بخش \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
محکم ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# وَسْبِحْنَاهُ يَا بَرُّ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای نیکو \* بلند مرتبه‌ای  
تو پاک ہے اے نیکوتر تو بلندتر ہے اے

# وَدُودُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

\* ای دوستدار ما \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه‌بخش  
محبت والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا رَشِيدُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای توانای دانا \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے ہدایت والے تو بلندتر ہے اے

# مُرْشِدُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای رهنما \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
ہدایت دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا نُورٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای نور \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے نور تو بلندتر ہے اے

# مُنْورٌ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجْيِرٌ

ای روشنی بخش \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش \*  
نور دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَهُ يَا نَصِيرٌ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّھی ای یاور \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے مدد کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# نَاصِرٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای باری بخش \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
مددگار ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا صَبُورٌ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّهی ای بردبار \* بلند مرتبه ای  
تو پاک ہے اے برداشت کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# صَابِرٌ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ

ای شکیبا \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش \*  
صبر کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# وَسُبْحَانَهُ يَا مُحَمَّدُ تَعَالَى يَا سُبْحَانَهُ يَا مُحَمَّدُ تَعَالَى يَا

پاک و منزّھی ای به شمار آورنده \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے جمع کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# مُنْشِئٌ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ای ایجاد کننده \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
پیدا کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا سُبْحَانُهُ تَعَالَيْتَ يَا

پاک و منزّھی ای ذات مبرّا از نقص \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے پاک و پاکیزہ تو بلند تر ہے اے

# دَيْنُ أَجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٍ

ای کیفر بخش \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش  
جزا دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



وَسُبْحَانَهُ يَا مُغِيثُ تَعَالَى يَا

پاک و منزّھی ای فریادرس \* بلند مرتبہ ای  
تو پاک ہے اے فریادرس تو بلندتر ہے اے

غِیاثُ أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِیْرُ

ای پناہ خلق \* ما را از آتش، در پناہ خود بیاور ای پناہ بخش \*  
فریاد کو پہنچنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا فَاطِرُ تَعَالَىٰ يَا

پاک و منزّهی ای آفریننده \* بلند مرتبه‌ای ای حاضر  
تو پاک ہے اے پیدا کرنے والے تو بلندتر ہے اے

# حَاضِرٌ أَجْرَنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

\* و ناظر بر خلق \* ما را از آتش، در پناه خود بیاور ای پناه بخش  
موجود ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناه دینے والے



# سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَمَالِ



\* پاک و منزہی ای دارای عزت و جمال  
تو پاک ہے اے بڑائی اور حسن والے

# تَبَارَكَتَ يَا ذَا الْجُبْرُوتِ وَالْجَلَلِ



\* بزرگواری ای صاحب جبروت و جلال  
تو بابرکت ہے اے صاحب اقتدار اور جلالت والے



سُبْحَانَكَ لَا إِلَهٌ إِلَّا أَنْتَ

\* پاک و منزّھی ای خدای یکتا، که جز تو خدایی نیست  
تو پاک ہے سوائے تیرے کوئی معبدنہیں ہے

سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

\* وَ مِنْ بَنْدَهَايِ از ستمکارانم  
تو پاک ہے بیشک میں خطا کاروں میں



فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ

\* پس دعای وی مستجاب کردیم و او را از غم و اندوه نجات دادیم  
ہوں سے پس ہم نے اسکی دعا قبول کی اور ہم نے اسکو رنج سے نجات دی اور

وَكَذِلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

\* و ما این گونه اهل ایمان را نجات خواهیم داد  
ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں اور



وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ [سَيِّدِنَا] مُحَمَّدٍ

و درود و تحيت خدا بر سید ما محمد  
خدا ہمارے سردار حضرت محمد پر اور

وَإِلَهَ أَجْمَعِينَ



\* و بر تمام اهل بیت او باد  
انکی ساری آل (ع) پر



وَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



و ستایش مختص خداست که پروردگار عالمیان است \*  
رحمت فرمائے اور ساری تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جو عالمین کا رب

وَحَسِبْنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ



و خدا ما را کفايت است و نیکو وکیلی است \*  
ہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کارساز اور



# وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ


و هیچ توانایی و قدرتی  
نهیں کوئی طاقت و قوت مگر وہی جو



# إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

جز به خدای بلند مرتبہ بزرگ نخواهد بود \*  
بلند و برتر خدا سے ملتی ہے





Negares Asan



easy.reading.quran



negaresheasan



negareshasanpub



[www.negaresheasan.ir](http://www.negaresheasan.ir)

نگارش  
آسان